

برامپٹن اور یارک ریجن کے لیے الیکٹرک بس پائلٹ پراجیکٹ کے لیے فنڈنگ کا اعلان کر دیا گیا

برامپٹن، آن – جناب اسٹیون ڈیل ڈوکا، منسٹر آف اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ، نے برامپٹن اور یارک ریجن میں بجلی کی بیٹریوں سے چلنے والی بسوں کا تجربہ کرنے کے نئے پائلٹ پراجیکٹ کے لیے آج فنڈنگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان نیومارکیٹ میں یارک ریجن کے ایڈمنسٹریٹو سنٹر میں کیا گیا۔

برامپٹن ٹرانزٹ نے [کینیڈین اریٹن ٹرانزٹ ریسرچ اینڈ انویشن کنسورشیم \(CUTRIC\)](#) کے ساتھ شراکت داری میں 2015 سے اس تجربے کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں ایک رہنما ٹرانزٹ ایجنسی کے طور پر کردار ادا کیا ہے۔ یہ قومی تجربہ [اپنی نوعیت کا پہلا عالمی کنسورشیم پر مبنی پراجیکٹ](#) ہے۔

2019 تک، برامپٹن میں معیاری اور پوری طرح متبادل طور پر چلائے جانے کے قابل بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک بسیں اور ہائی پاورڈ اور ہائی آن رُوٹ چارجنگ سسٹم کا واحد اور عالمی طور پر سب سے بڑا نظام موجود ہو گا؛ جس میں آٹھ الیکٹرک بسیں (چھ نیو فلائرن انڈسٹریز کی جانب سے اور دو نووا بس کی جانب سے) اور چار عدد چارجنگ سسٹم (تین ABB گروپ کی جانب سے اور ایک سائمنز کی جانب سے) موجود ہوں گے۔

برامپٹن ٹرانزٹ ایسی اعلیٰ معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے نئے اور جدت پسند سلیوشنز کو فروغ دینے کے لیے پر عزم ہے، جو شہر کے مجموعی کاربن فوٹ پرنٹ اور گرین ہاؤس گیس (GHG) کے اخراج کو کم کرتے ہوں۔

برامپٹن ٹرانزٹ موجود طور پر اپنے بیڑے میں 422 بسیں چلاتا ہے، بشمول 110 رُوم بس ریپڈ ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں۔ رُوم کی بسیں ڈیزل ہائیبرڈ الیکٹرک ہیں، جو مکمل طور پر ڈیزل پر ڈیزل پر چلنے والی بسوں کی نسبت ہر سال تقریباً 3,500 ٹن گرین ہاؤس گیس (GHG) کے اخراج کو کم کر رہی ہیں۔

2017 میں، برامپٹن ٹرانزٹ کی سواری میں پچھلے سال کی نسبت 18% فیصد اضافہ ہوا اور اس کی بڑھوتری کی بنیاد پر، 2031 تک بیڑے میں گاڑیوں کی تعداد 800 سے بڑھنے کی توقع کی جا رہی ہے۔

اقتباسات:

برامپٹن ٹرانزٹ ایسی اعلیٰ معیاری خدمات فراہم کرنے کے لیے نئے اور جدت پسند حل سامنے لا رہا ہے، جو شہر میں کاربن کے مجموعی اخراج اور GHG کے اخراج میں کمی لاتے ہوں۔ جیسا کہ برامپٹن کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے ساتھ واقع ہے، ہمارا اچھی طرح مربوط آمد و رفت کا نیٹ ورک اور ایک قابل استحکام بیڑہ لوگوں کو پورے GTHA میں زیادہ مؤثر طریقے سے نقل و حمل فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نئی ای بسیں اس بات کی تصدیق ہیں کہ سٹی آف برامپٹن مستقبل کے لیے تیار ہے۔"

- میئر لنڈ جیفیری

"برامپٹن ٹرانزٹ نے اپنے سواروں کو غیر معمولی خدمات پیش کرنے کے لیے پچھلے کئی سالوں سے کئی نئی ٹیکنالوجیز اور اقدامات کو متعارف کروایا ہے۔ یہ ایک ایسا پراجیکٹ ہے، جس میں ہمیں نہ صرف اپنے ماحولیاتی اثرات میں بہتری لانے کے لیے نئی، جدت پسند ٹیکنالوجیوں کا تجربہ کرنے، بلکہ کینیڈا کے سب سے بڑے آمد و رفت کی خدمات کے فراہم کنندگان میں سے ایک بننے کی اپنی کوششوں کو بڑھانے پر بھی فخر ہے۔ ہمیں پہلے دن سے اس پراجیکٹ میں رہنما کردار ادا کرنے پر فخر ہے اور ہم اسے آگے بڑھنا دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں۔"

- ایلکس ملوجیوک، جنرل منیجر، برامپٹن ٹرانزٹ

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654